Rampur State Gazette

گزٹ ریاست رامپور

بحکم بندگان اعلیحضرت حضور پرنور دام اقبالہم و ملکہم

جلد ۳۸	مطبوعہ روز دوشنبہ تاریخ ۸ ماہ جمادی الآخر ۱۳۴۵ھ مطابق ۱۳ ماہ دسمبر ۱۹۲۶ء	نمبر ۵

فہرست مضامین

حکم اجلاس ہمایون بندگان حضور پرنور دام اقبالہم و ملکہم

رخصت

۲۹ ماہ نومبر ۱۹۲۶ء

متفقہ عرضداشت اجلاس صاحب ہوم سکریٹری بہادر درباره منظوری رخصت مزید رعایتی صاحب سپرنٹنڈنٹ بہادر پولیس تا ۱۵ ماہ دسمبر سنہ حال بوجہ بقائے علالت بانتظام موجوده

حکم

۱۵ ماہ دسمبر ۱۹۲۶ء تک رخصت رعایتی بانتظام موجوده منظور ہے۔

کاغذات بغرض اجراے احکام واپس ہو۔
حسب الحکم دستخط صاحب چیف سکریٹری بہادر

حکم اجلاس صاحب ریونیو سکریٹری بہادر

بنشاء حکم بندگان عالی حضور پرنور دام اقبالہم و ملکہم احکام جاری ہون۔ انسپکٹر صاحب شہر ۱۵ دسمبر سنہ حال تک بدستور کام صاحب سپرنٹنڈنٹ بہادر پولیس انجام دین — ۲ دسمبر ۱۹۲۶ء
دستخط صاحب ریونیو سکریٹری بہادر

روبکار اجلاس ہمایون بندگان حضور پرنور دام اقبالہم و ملکہم واقع ۲ دسمبر ۱۹۲۶ء

منشی ظہیر الحسن حکم نویس اجلاس ہمایون کی تنخواہ موجودہ مین سات روپیہ ماہوار اضافہ۔ اور منشی عزیز الحسن ناظر اجلاس ہمایون کی تنخواہ موجودہ مین پانچ روپیہ ماہوار اضافہ۔ اور منشی اکرام الدین اہلمد اجلاس کی تنخواہ مین پانچ روپیہ ماہوار اضافہ یکم دسمبر ۱۹۲۶ء سے منظور ہے۔

حکم ہوا کہ

سررشتہ صدر سے احکام ضابطہ جاری ہون
حسب الحکم دستخط صاحب چیف سکریٹری بہادر

احکام اجلاس ہمایون بندگان حضور پرنور دام اقبالہم و ملکہم

رخصت

۴ دسمبر ۱۹۲۶ء

مثل عرضداشت صاحب سکریٹری بہادر صنعت و حرفت در بارہ منظوری رخصت تین ہفتہ سید ظہیر حسین انسپکٹر صیغہ مویشیخانہ جات من ابتدا ۵ دسمبر ۱۹۲۶ء بر بنا رپورٹ صاحب سپرنٹنڈنٹ مویشیخانہ جات

حکم

بموجب رپورٹ۔ سید ظہیر حسین انسپکٹر مویشیخانہ جات کی رخصت رعایتی تین ہفتہ منظور ہے۔ احکام ضابطہ جاری ہون۔
حسب الحکم دستخط صاحب چیف سکریٹری بہادر

اضافہ جات

۵ دسمبر ۱۹۲۶ء

مثل عرضداشت صاحب سکریٹری بہادر تعمیرات در بارہ ...

تنخواہ ملازمان متصلہ حکم از یکم اکتوبر ۱۹۲۶ء بلحاظ گریڈ منظور شدہ

حکم

بابو فاروق حسین بی اے۔ سپرنٹنڈنٹ دفتر کی تنخواہ موجودہ مین دس روپیہ ماہوار اضافہ۔ اور بابو بانگو بہ بی اے اکاونٹنٹ ہیڈ کلرک کی تنخواہ مین دس روپیہ ماہوار اضافہ۔ اور منشی آغا نواب بیگ ... کی تنخواہ موجودہ مین پانچ روپیہ ماہوار اضافہ منظور ہے۔ یہ جملہ اضافے منظور شدہ گریڈ کے اندر ہین۔ احکام ضابطہ جاری ہون۔
حسب الحکم دستخط صاحب چیف سکریٹری بہادر

اختیارات

۵ دسمبر ۱۹۲۶ء

مثل عرضداشت اجلاس صاحب جوڈیشل سکریٹری بہادر در بارہ اطلاع قریب الختم ہونے مدت چھ ماہ توسیع اختیارات مجسٹریٹی درجہ دوم عطا شدہ اجلاس ہمایون بہ آنریری مجسٹریٹ صاحبان و استدعا مستقلی اختیارات مذکور بنظر اسلوبی کام بر بنا سفارش صاحب چیف مجسٹریٹ ضلع۔

حکم

رپورٹ منظور ہے۔ بغرض اجراے احکام کاغذات واپس ہون۔
حسب الحکم دستخط صاحب چیف سکریٹری بہادر

احکام اجلاس صاحب ریونیو سکریٹری بہادر

اضافہ

یکم دسمبر ۱۹۲۶ء

مثل درخواست احمد یار خان معاون اہلمد صدر محکمہ کارخانہ جات مصدقہ سررشتہ دار صاحب صدر و حاکم صاحب صدر در بارہ اضافہ تنخواہ بوجہ حسن انجام خدمات و قلت تنخواہ

حکم

احمد یار خان معاون اہلمد کارخانہ جات کا اضافہ ایک روپیہ ماہانہ تنخواہ موجودہ بارہ روپیہ ماہوار مین منظور ہے۔ احکام ضابطہ جاری ہون۔
دستخط صاحب ریونیو سکریٹری بہادر

رخصت

۴ دسمبر ۱۹۲۶ء

مثل رپورٹ تحصیلدار صاحب حضور تحصیل مصدقہ حاکم صاحب صدر

دربارہ منظوری رخصت تیرہ ۱۳ یوم منشی حیدر حسن خان نائب تحصیلدار حضور تحصیل من ابتدا ۴ دسمبر لغایت ۱۶ دسمبر ۱۹۲۶ء بوجہ علالت

حکم

حسب رائے حاکم صاحب صدر رخصت ۱۳ یوم منشی حیدر حسن خان نائب تحصیلدار بوجہ علالت حسب تصدیق ڈاکٹر صاحب منظور ہے۔ احکام جاری ہوں

دستخط صاحب ریونیو سکریٹری بہادر

احکام اجلاس صاحب جوڈیشل سکریٹری بہادر

رخصت

۴ دسمبر ۱۹۲۶ء

حسب رپورٹ انسپکٹر صاحب مدارس منشی احمد حسن المدد سررشتہ انسپکٹری کی رخصت دس روز یکم دسمبر ۱۹۲۶ء سے بعوض ابراہیم حسین منظور کی گئی۔ ایام رخصت کی نصف تنخواہ اصل کو اور نصف عوض کو ملیگی۔ لہذا

حکم ہوا کہ

نقل حکم ہذا برائے اندراج گزٹ مطبع کو مرسل ہو۔

دستخط صاحب جوڈیشل سکریٹری بہادر

توسیع

۶ دسمبر ۱۹۲۶ء

حسب رپورٹ انسپکٹر صاحب مدارس مسمی تمیز الدین مدرس مدرسہ چوم تحصیل ملک کی مدت ملازمت غیر مستقل میں ۷ دسمبر ۱۹۲۶ء سے تین ماہ کی توسیع کی گئی۔ لہذا

حکم ہوا کہ

نقل حکم ہذا برائے اندراج گزٹ مطبع کو مرسل ہو۔

دستخط صاحب جوڈیشل سکریٹری بہادر

برخاستگی

۸ دسمبر ۱۹۲۶ء

حسب رپورٹ انسپکٹر صاحب مدارس مسمے راج بہادر مدرس اول مدرسہ نالہ پار ۲۵ نومبر ۱۹۲۶ء سے بوجہ غیر حاضری برخاست کیا گیا اور بجائے نامبردہ مسمے فراست حسین خان انٹرنس پاس کو تقرر امتحانًا برائے چھ ماہ بمشاہرہ پندرہ روپیہ کیا گیا۔ لہذا

حکم ہوا کہ

نقل حکم ہذا برائے اندراج گزٹ مطبع کو مرسل ہو۔

دستخط صاحب جوڈیشل سکریٹری بہادر

روبکار اجلاس صاحب پرائیوٹ سکریٹری بہادر

واقع ۶ دسمبر ۱۹۲۶ء

عبد الجلیل ناظر اجلاس مشاہرہ دار بیس ۲۰ روپیہ ماہواری نے ایک ماہ کی رخصت بضرورت امتحان طبی حاصل کی تھی۔ زمانہ رخصت میں کام کا انتظام حسب ذیل تھا

سید نوشہ علی روزنامچہ نویس سے متعلق۔ اور انکا کام احسان اللہ خان سے۔ احسان اللہ خان کا واحد علی خان دفتری سے متعلق تھا۔ اب رخصتی کی درخواست رخصت مزید میعادی تین ماہ بوجہ التوائے امتحان مصدقہ پرنسپل صاحب طبیہ کالج نظامیہ اوز آئی ہے۔ چونکہ رخصت طویل ہے۔ لہذا حسب ذیل انتظام کیا جاتا ہے

۱۔ سید نوشہ علی تا زمانہ رخصت سترہ روپیہ ماہوار پاتے رہیں گے۔ کام بدستور انجام دینگے۔ اسوقت انکی تنخواہ [illegible] ہے۔

۲۔ احسان اللہ خان روزنامچہ کا کام بدستور کرینگے۔

۳۔ واحد علی خان دفتری ۷ روپیہ پاتا ہے۔ آئندہ وہ ۸ آٹھ روپیہ ماہوار پائیگا۔

۴۔ بجائے دفتری برج بہادر پسر جسکی بابت جناب صاحب چیف سکریٹری بہادر نے پرورش کا ایما فرمایا ہے۔ بمشاہرہ چھ روپیہ آٹھ آنہ ماہواری دفتری مقرر کیا جائے۔

۵۔ بزمانہ رخصت پندرہ روپیہ ماہواری ناظر رخصتی کو ملیگی۔

حکم ہوا کہ

احکام ضابطہ صادر ہے جاری ہوں۔

دستخط صاحب پرائیوٹ سکریٹری بہادر

روبکار اجلاس صاحب سکریٹری بہادر صنعت و حرفت

واقع ۶ دسمبر ۱۹۲۶ء

بصورت خاص مویشی خانہ جات کا کام صاحبزادہ سعادت یار خان صاحب بہادر سپرنٹنڈنٹ آبکاری کے سپرد کیا گیا تھا۔ چونکہ انکا انتقال ہوگیا اس لئے اب براہ راست مویشی خانہ جات کا اجلاس ہٰذا سے تعلق رہیگا۔ جیسا صاحب ہوم سکریٹری بہادر مرحوم کے زمانہ میں تھا۔ انسپکٹر مویشی خانہ و محمد رضا خان

اہلمد و چپراسی کا موشیخانہ دفتر ہذا میں رہکر کام انجام دیں۔ لہذا

حکم ہوا کہ

تحصیلدار صاحبان جملہ تحصیلات کو اطلاع دیجائے کہ حسب ضابطہ کاربند ہوں۔ احکام ضابطہ جاری ہوں۔ نقل روبکار ہذا درج گزٹ کیجائے اور یادداشت اطلاعاً اجلاس ہمایوں کو مرسل ہو۔

دستخط صاحب وزیر بہادر تعمیرات

احکام اجلاس صاحب فائنانشل سکریٹری بہادر

اضافہ

۲۳ نومبر ۱۹۲۶ء

دربارہ اضافہ پانچروپیہ در تنخواہ سری کرشنداس تحویلدار حضور تحصیل تنخواہدار بست روپیہ۔

حکم

سری کرشنداس تحویلدار حضور تحصیل کی موجودہ تنخواہ بیس روپیہ ماہوار میں یوم کارکردگی یعنی یکم اپریل ۱۹۲۶ء پانچروپیہ ماہوار اضافہ اسلئے کہ اسنے تکمیل ضمانت کرا دی ہے منظور کیا جاتا ہے۔ کاغذات بغرض اجراء احکام محکمہ صدر کو مرسل ہو۔

دستخط صاحب فائنانشل سکریٹری بہادر

رخصت

یکم دسمبر ۱۹۲۶ء

مثل تحریر دیوانصاحب دربارہ منظوری رخصت یکماہ شیر علیخان روزنامچہ نویس سررشتہ تنخواہدار بارہ روپیہ از ۲۳ نومبر ۱۹۲۶ء بوجہ مرض سے باجوا پنشن لیاقت پانچروپیہ باجرت کارکردگی برضامندی۔

حکم

حسب سفارش دیوانصاحب شیر علیخان روزنامچہ نویس سررشتہ دیوانصدر ۲۳ نومبر ۱۹۲۶ء سے ایک ماہ کی رخصت بوجہ مرض نصف باجرا پنشن یوم روزگی رخصتی سے منظور کیجاتی ہے۔ بغرض اجرا احکام صدر کو مرسل ہو۔

دستخط صاحب فائنانشل سکریٹری بہادر

اضافہ

۶ دسمبر ۱۹۲۶ء

مثل تحریر دیوانصاحب دربارہ منظوری اضافہ مبلغ دو روپیہ ماہانہ سے منموہن لال اہلمد اسناد خزانہ سررشتہ دیوانصدر بلحاظ محنت۔

حکم

حسب سفارش دیوانصاحب منموہن لال اہلمد اسناد کی تنخواہ موجودہ چودہ روپیہ ماہوار میں ایک روپیہ ماہوار کا اضافہ منظور کیا جاتا ہے۔ بغرض اجرا احکام صدر کو مرسل ہو۔

نقشہ نرخنامہ اجناس متعلقہ ریاست رامپور من ابتدائے ۷ لغایت ۱۳ دسمبر ۱۹۲۶ء

نام جنس	حضور تحصیل	شاہ آباد	ملک	بلاسپور	سوار	ٹانڈہ	کیفیت
گندم	۶ ۰ ؍ ؍		۷ ؍ ؍	۷ ۰ ؍	۷ ۰ ؍	۷ ۰ ؍	تحصیل شاہ آباد سے نقشہ نہیں آیا
نخود خالص	۷ ۰ ؍		۷ ۰ ۰	۷ ۰ ؍	۸ ۰ ؍	۷ ۰ ؍	
نخود کہ آمیز	۸ ۰ ؍		۸ ۰ ؍	۸ ۰ ؍	۹ ۰ ؍	۷ ۰ ۰ ؍	
کسہ	۵ ۰ ۰ ؍		۵ ۰ ؍	۸ ۰ ۰ ؍	۹ ۰ ؍	۸ ۰ ؍	
ماش	۷ ۰ ۰ ؍		۷ ۰ ۰ ؍	۷ ۰ ۰ ؍	۶ ۰ ۰ ؍	۷ ۰ ؍	
مونگ	۶ ۰ ؍		۷ ۰ ؍	۶ ۰ ؍	۰	۷ ۰ ؍	
مکا	۹ ۰ ؍		۱۰ ۰ ؍	۹ ۰ ؍	۹ ۰ ۰ ؍	۱۰ ۰ ؍	
جئی	۹ ۰ ۰ ؍		۰	۱۰ ۰ ؍	۱۱ ۰ ؍	۱۱ ۰ ؍	
گوجئی	۸ ۰ ۰ ؍		۰	۰	۹ ۰ ؍	۸ ۰ ؍	
ہدس	۶ ۰ ؍		۰	۶ ۰ ۰ ؍	۰	۶ ۰ ؍	
ارہر	۵ ۰ ۰ ؍		۰	۰	۰	۷ ۰ ؍	
برنج	۵ ۰ ۰ ؍		۶ ۰ ؍	۶ ۰ ؍	۶ ۰ ؍	۶ ۰ ؍	
روغن زرد	۰ ۰ چھٹانک		۵ چھٹانک	۰ ۰ ؍	۰ ۰ ؍	۰ ۰ ؍	
روغن سیاہ	۱ ۱۱ ۰ ؍		۱ ۰ ؍	۱ ۰ ۰ ؍	۱ ۰ ؍	۱ ۰ ۰ ؍	
روغن کنجد	۳ ۱ ۰ ؍		۱ ۰ ؍	۱ ۰ ؍	۱ ۰ ؍	۱ ۰ ؍	
نمک سانبھر	۱۲ ۰ ؍		۱۲ ۰ ؍	۱۱ ۰ ؍	۱۲ ۰ ؍	۱۲ ۰ ؍	
نمک لاہوری	۶ ۰ ؍		۶ ۰ ؍	۰	۰	۸ ۰ ؍	
قند سیاہ	۵ ۰ ۰ ؍		۵ ۰ ۰ ؍	۶ ۰ ؍	۶ ۰ ؍	۶ ۰ ؍	
باجرہ	۵ ۰ ۰ ؍		۹ ۰ ؍	۵ ۰ ۰ ؍	۰	۸ ۰ ؍	

مطبوعہ سرکاری پریس ریاست رامپور

نقشہ گوشوارہ حیات و ممات متعلقہ ریاست رامپور سہ ماہی چہارم من ابتداے جولائی سنہ ۱۹۲۶ء لغایت ستمبر سنہ ۱۹۲۶ء

نام تھانہ	تفصیل پیدائش							تفصیل فوتی																		کیفیت
	مرد		عورت		میزان	تفصیل مذہب		ایکسال سے ۵ سال تک		۵ سال سے ۱۲ سال تک		۱۲ سال سے زیادہ		میزان		تفصیل مذہب		تفصیل امراض							[illegible]	
	مسلمان	ہنود	مسلمان	ہنود	میزان	مسلمان	ہنود	مرد	عورت	مرد	عورت	مرد	عورت	مرد	عورت	مسلمان	ہنود	ہیضہ	چیچک	طاعون	بخار	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴	۲۵	۲۶	۲۷
کوتوالی	۸۷	۲۶	۴۴	۱۹	۱۶۴	۱۳۶	۲۸	۴۷	۵۳	۹	۶	۵۹	۶۱	۱۳۰	۱۲۰	۱۸۴	۶۶	۴۴	۱۵	-	۲۰۰	۱	۰	-	۲۶۰	
گنج	۸۴	۱۶	۵۲	۱۰	۱۶۷	۱۳۸	۲۹	۸۰	۴۵	۱۱	۱۱	۵۹	۵۹	۱۵۰	۱۱۵	۲۴۰	۲۵	۴۱	۵۰	۰	۱۸۹	۰	۰	۰	۲۶۵	
حوالی شہر	۳۹	۳۰	۳۰	۱۹	۱۱۸	۴۹	۴۹	۸	۱۲	۶	۱	۱۹	۱۲	۴۳	۲۵	۴۵	۲۳	۷	۵	۰	۵۴	۰	۰	۰	۶۸	
عظیم نگر	۷۸	۴۰	۲۸	۴۲	۲۱۸	۱۱۳	۱۰۲	۲۹	۳۳	۷	۱	۲۱	۲۷	۵۷	۶۱	۶۸	۵۰	۰	۲۳	-	۹۰	۵	-	-	۱۱۸	
شاہ آباد	۴۷	۱۱۳	۴۵	۹۱	۱۹۶	۹۲	۲۰۴	۲۹	۲۱	۶	۷	۴۴	۳۴	۶۹	۴۲	۳۷	۹۴	۰	۲۵	۰	۹۷	۹	۰	-	۱۳۱	
بھوائی	۲۲	۹۴	۱۵	۹۰	۲۲۱	۳۷	۱۸۴	۱۴	۲۰	۱۰	۳	۴۱	۲۳	۶۷	۴۶	۳۲	۸۱	۰	۰	-	۱۰۹	۲	۲	۰	۱۱۳	
ملک	۲۴	۱۲۳	۳۰	۱۱۲	۲۹۶	۶۲	۲۳۴	۶۹	۴۰	۷	۵	۶۴	۷۶	۱۲۰	۱۱۲	۳۲	۲۲۰	۰	۲۹	۰	۲۱۴	۹	۰	۰	۲۵۲	
بلاسپور	۲۹	۱۹	۲۵	۱۳	۸۶	۵۳	۳۲	۱۲	۱۱	۴	۱	۵۲	۲۶	۴۸	۳۸	۵۸	۴۸	۱	۲	۰	۹۲	۱۱	۰	۰	۱۰۶	
کیمری	۲۲	۵۶	۱۰	۵۲	۱۴۲	۳۲	۱۱۰	۲۱	۱۸	۱۲	۶	۳۰	۴۴	۶۳	۵۸	۶۲	۶۹	۵۰	۰	۶۹	۱۲	۰	۰	۰	۱۳۱	
سوار	۴۲	۲۹	۲۹	۵۶	۱۶۲	۱۰۶	۷۱	۱۶	۱۷	۵	۳	۴۶	۲۸	۶۷	۴۸	۷۲	۴۱	۸	۳۰	۰	۱۰۴	۰	۰	۰	۱۱۵	
ٹانڈہ	۵۰	۶۰	۵۰	۴۵	۲۰۵	۱۰۰	۱۰۵	۳۲	۲۰	۴۰	۷	۲۹	۲۸	۶۵	۵۵	۷۷	۴۳	۰	۸	-	۱۰۷	۵	۰	۰	۱۲۰	
میزان	۸۴۴	۷۹۴	۳۷۸	۴۰۹	۲۴۲۹	۹۴۴	۱۴۲۰	۳۹۲	۲۱۰	۸۱	۵۱	۴۴۴	۴۲۹	۹۲۹	۷۴۰	۹۱۹	۷۴۰	۱۸۱	۱۱۵	۴۹	۱۲۰۰	۴۲	۲	۰	۱۴۷۹	